

Surah 028: Al-qasas - سورة القصص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[28:0] Bismi **ALLAH**, Alrahman, Alrahim.

طَسَمَ ١

[28:1] T. S. M.*

**28:1 Dubi Shafi 1 don qarin bayani game da mu'ujizan shifran riyadiyan Alqur'an, da ma'ana ko muhimmancin wadannan baqaqen Alqur'ani.*

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢

[28:2] Wadannan (harrufan) sun qumshi hujjoji na wannan Littafi bayyananne.

نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ ٣

[28:3] Muna karanta maka cikin nan daga labarin Musa da Fir'auna da gaskiya domin amfanin mutanen da suka imani.

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ
طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

[28:4] Fir'auna ya daukaka a cikin qasa, kuma ya nuna warayya ga mutanenta. Ya tsananta wa, wata jama'a masu rauni; yana yanyanka 'ya'yansu maza, kuma yana rayar da 'ya'ya mata. Lalle, ya kasance daga masu barna.

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ
أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾

Allah Yana Rama Wa Ga Wadanda Aka Tsananta Wa

[28:5] Mun nufa Mu rama wa wadanda aka tsananta masu a cikin qasa, kuma Mu sanya su shugabanni, kuma Mu sanya su magada.

وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا
كَانُوا يُحْذَرُونَ ﴿٦﴾

[28:6] Kuma Mu qarfafa su a cikin qasa, kuma Mu dandana wa Fir'auna da Hamana, da rundunoninsu dandanon magani irin tasu.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي
 الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ
 الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

Amincewa Ga Allah

[28:7] Muka yi wahayi zuwa ga uwar Musa cewa: "Ki shayar da shi, sai idan kin ji tsoro game da shi, to, ki jefa shi a cikin kogi, kada ki ji tsoro ko ki yi baqin ciki. Za mu mayar da shi zuwa gare ki, kuma za mu sanya shi daya daga cikin manzanni."

فَالنَّقِطَةُ ۗ ءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ
 وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾

[28:8] Sai iyalan Fir'auna suka tsince shi, domin kawai ya kasance maqiyi da baqin ciki a gare su. Lalle ne Fir'auna da Hamana da rundunoninsu, sun kasance masu ayyukan ganganci.

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ ۗ لَانْتَقَلُوهُ عَسَىٰ أَنْ
 يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

Ga kura Ga Zaki

[28:9] Sai matar Fir'auna ta ce, "Wannan zai iya zama alheri a gare ni da gare ka. Kada ka kashe shi, akwai fatan ya amfane mu, ko mu riqe shi a matsayin danmu." Ba su da masaniya faufau.

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن
رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

[28:10] Zuciyar uwar Musa ta fara taraddadi har ta kusan bayyanar da shi.
Sai muka qarfafa zuciyarta, domin ta kasance daga mumina.

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهٖ فَبَصُرَتْ بِهِٓءَ عَن جُنُبٍ وَهَمَّ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

[28:11] Sai ta ce wa 'yar'uwar, "Ki bi shi." Saboda haka sai tana leqen shi
daga nesa, alhali su ba su sani ba.

﴿١٢﴾ وَحَرَّمَ نَاعِيَهُ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾

Jariri Ya Koma Ga Hannun Uwarsa

[28:12] Kuma Muka hana shi daga karbar dukan mata masu shayar da
mama. A gabanin haka sai ('yar'uwar) ta ce, "Ko in nuna maku iyalin wani
gida, su yi maku renonsa, kuma su kula da shi da kyau?"

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

[28:13] Sai Muka mayar da shi zuwa ga uwarsa domin mu faranta mata zuciya, kuma mu cire mata damuwa, kuma domin ta san cewa lalle wa'adin **ALLAH** gaskiya ne, amma kuma mafi yawansu ba su sani ba.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَأَسْتَوَىٰ، ءَأَنبَنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

[28:14] Kuma a lokacin da ya kai ga balaga da qarfinsa, sai muka ba shi hukunci da ilmi. Kuma kamar haka Muke saka wa masu kyautatawa.

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتُلَانِ هَذَا مِنْ شِيعِنِهِ، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، فَاسْتَغْثَهُ الَّذِي مِنْ
شِيعِنِهِ، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قَالَ هَذَا مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

Musa Ya Aikata Kisan Kai

[28:15] Sa'ad da ya shiga garin a kan ba zata, ba tare da mutanen garin sun gane shi ba. Sai ya samu, wadansu maza biyu suna fada; daya (bayahude ne) daga mutanensa, kuma dayan (bamisra) daga maqiyansa. Sai wanda yake daga qungiyarsa ya nemi agajinsa. Sai Musa ya yi masa kulli, ya kashe shi. Ya ce, "Wannan aikin Shaidan ne, domin shi maqiyi ne mai batarwa, bayyananne."

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ ١٦

[28:16] Ya ce, "Uhangijina, na zalunci kaina, Ka yi mini gafara," sai Ya gafarta masa, domin Shi ne Mai yawan gafara, Mafi jin qai.

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١٧

[28:17] Ya ce, "Ubangijina, domin abin da Ka ni'imta a kaina, sahoda haka ba zan kasance mai taimako ga masu laifi ba."

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرُهُ بِالْأَمْسِ

يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ١٨

[28:18] Da safe, yana cikin gari, yana tsoro da kiyayewa. Sai ga wanda ya nemi taimako daga gare shi a jiya, yana neman agajinsa kuma. Musa ya ce masa, "Lalle kai fitinanne ne, bayyananne."

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ

تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ

وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ١٩

An Fallasa Laifin Musa

[28:19] Kafin ya kai nushe ga wanda yake maqiyi ne a gare su, ya ce, "Ya Musa, shin, kana so ne ka kashe ni ne kamar yadda ka kashe wani rai jiya? Galibi kana so ne fitinanne a cikin qasa; ba so kake ka zama na kirki ba.

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ آمَتُوا
بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجْ إِنِّي لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

[28:20] Sai ga wani mutum ya zo a guje daga anguwan birnin, yana cewa, "Ya Musa mutane suna shawara game da kai domin su kashe ka. Saboda haka ka gudu maza. Nasaha ne mai kyau nike baka."

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

[28:21] Sai ya gudu daga garin, yani mai jin tsoro da kulawa. Ya ce, "Ubangijina, Ka tsirar da ni daga azzaluman mutane."

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ
السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

A Cikin Midyana

[28:22] Kuma a lokacin da ya fuskanci wajen Madyana, ya ce, "Ina fatan Ubangijina Ya shiryar da ni a kan madaidaiciyar hanya."

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا
نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

[28:23] A lokacin da ya isa mashayar Madyana, ya sami wata jam'ar mutane suna shayarwa, sa'annan ya sami wadansu mata biyu a gefe suna korar

(tumakansu). Ya ce, "Mene ne abin buqatarku?" Suka ce, "Ba za mu iya shayarwa ba, sai makiyaya sun watse, kuma babanmu tsoho ne sosai."

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ

فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

[28:24] Sai ya shayar masu, sa'an nan kuma ya juya zuwa ga inuwa, yana cewa, "Ubangijina, ina buqatar duk abin da Ka saukar zuwa gare ni na alheri."

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ

قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

[28:25] Ba jima ba, sai dayansu ta je masa, tana jin kunya, ta ce, "Babana yana kiran ka, domin ya saka maka ijara, saboda shayarwan da ka yi mana." To, a lokacin da ya je ya same shi, ya gaya masa labarinsa, ya ce, "Kada ka ji tsoro, ka tsira daga azzaluman mutane."

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Musa Zai Yi Aure

[28:26] Dayansu ta ce, "Ya Baba, Ka ba shi aikin ijara, lalle, shi ne ya fi ka wanda za ka bai wa aikin ijara, saboda shi mai qarfi ne amintacce."

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
 عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

[28:27] Ya ce, "Ina fatan in baka daya daga 'ya'yana biyu ka aura, a kan ka yi mini aikin ijara shekara takwas; to, amma idan ka cika goma, to, zai kasance ganin dama daga gare ka. Ba ni so in tsananta maka, za ka same ni, insha **ALLAH**, daga salihai."

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ
 وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

[28:28] Ya ce, "Wannan yarjejeniya ne a tsakanina da kai. Kowane biyun adadin da na cika, to, babu wani laifi a kaina. **ALLAH** ne Wakili ga abin da muke fada."

﴿﴾ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ ءَأَنسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ
 نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي ءَأَنسْتُ نَارًا لَعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ
 جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

Komawa Zuwa Masar

[28:29] To, a lokacin da Musa ya cika adadin lokacinsa, sai ya yi tafiya da iyalinsa (zuwa Masar). Sai ya tsinkayi wata Wuta daga gefen tsaunin Sinai. Ya cewa iyalinsa, "Ku dakata a nan, na tsinkayi wata wuta. Watakila in zo maku da wani labari daga gareta, ko kuwa makamashi daga Wutar don ku ji dimi."

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ

٣٠

مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَىٰ إِيَّيَ أَنْ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

[28:30] To, a lokacin da ya kai ga wurinta (Wutar), aka kira shi, daga gefen dama na kwari, a cikin wurin da daji ke qonewa mai albarka: "Ya Musa, Lalle Ni ne, **ALLAH**; Ubangijin halittu."

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ

٣١

يَمْوَسَىٰ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ

[28:31] "Ka jefa sandarka." To, a lokacin da ya gan ta, tana motsin tafiya kamar qaramar macijiya, sai ya juya ya ruga a guje ba waiwaya. "Ya Musa, Ka dawo; kada ka ji tsoro. Babu abin da zai same ka.

أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُوبُكَ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

٣٢

وَمَلَأِيهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

[28:32] "Ka shigar da hannunka a cikin aljuhunka; zai fito fari ba tare da wani aibi ba, kuma ka nade hannuwanka, ka natsu daga tsoro (ya gushe daga gare ka). To, wadannan hujjoji ne guda biyu ne daga Ubangijinka, zuwa ga Fir'auna da 'yan majalisarsa; Lalle sun kasance fasiqan mutane."

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

[28:33] Ya ce, "Ubangijina, na kashe wani daya daga cikinsu, domin haka ina tsoron kada su kashe ni, nima."

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا

يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

[28:34] "Kuma dan'uwana Haruna shi ne mafi fasahan magana baici na. Saboda haka Ka aika shi tare da ni, a matsayin mataimaki, domin ya taya ni da gaskanta ni. Ina tsoron kada su qaryata ni."

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ

إِلَيْكُمَا بِآيٰتِنَا أَنْتُمَا وَمِنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾

[28:35] Ya ce, "Za Mu qarfafa ka tare da dan'uwanka, kuma Mu sanya maku wasu hujjoji. Saboda haka, ba za su taba kowanenku ba. Tare da ayoyinMu, ku da wadanda suka bi ku ne masu galaba."

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٰى

وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي ءَابَآئِنَا الْاَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾

Girman Kan Fir'auna

[28:36] To, a lokacin da Musa ya je masu da ayoyinMu bayyanannu, suka ce, "Wannan ba kome ba sai sihiri, wanda aka qaga. Kuma ba mu taba jin wannan ba daga wajen kakaninmu na da."

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ ۖ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ

عَقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

[28:37] Musa ya ce, "Ubangijina ne Mafi sanin wanda ya zo da shiriyar daga gare Shi, da wanda aqibar gida take kasancewa a gare shi. Lalle ne, masu zalunci ba su cin nasara."

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي

فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أُطْعَمُ إِلَيْنِ

إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

[28:38] Fir'auna ya ce, "Ya ku dattawa, ban san kuna da wani abin bautawa baicina ba. Saboda haka, ka cinna mini wuta, ya Hamanu, a kan laka, domin a yi tubali, na ginin hasumiya, ko zan duba in ga Ubangijin Musa. Na tabbata shi maqaryaci ne."

وَأَسْتَكَبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ

إِلَيْنَا لَآيُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

[28:39] Ta haka ne, ya kangare, shi da rundunoninsa a cikin qasa, ba tare da wanihaqqi ba, kuma suka zaci cewa, ba za a mayar da su zuwa gare Mu ba.

فَأَخَذَتْهُ وَجُنُودُهُ، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرَ كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

[28:40] Saboda haka, muka azabta shi, shi da rundunoninsa, ta hanyar nutar da su a cikin kogi. Sai ka dubi yadda aqibar azzalumai ta kasance.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّكَارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا

يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

[28:41] Muka sanya su shugabannin da suka yi jagorancin mutanensu zuwa ga wuta. Kuma a Ranar Alqiyamah ba za a taimake su ba.

وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ

الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

[28:42] Suka jawo wa kansu la'ana a cikin wannan duniya, kuma a Ranar Alqiyamah za su kasance cikin wanda aka share.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ

الْأُولَى بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

Littafin Musa

[28:43] Mun bai wa Musa Littafi - daga bayan Mun halakar da qarnonin farko, domin su zama abin lura ga mutane, da shiriya da rahamah, la'alla su tuna.

*28:43 Al'taurah tarin dukan litattafai ne wanda aka saukar wa annabawan Bani Isra'ila, wanda suka hada da littafin Musa. Alqur'ani yana yawan maimaitawa cewa an saukar wa Musa littafi, ko kuma "Littafin Dokoki." Amma duk cikin Alqur'ani babu inda za mu ga cewa an saukar wa Musa da "Al'taurah." Saboda haka, Tsohon Littafi na yanzu, shi ne Al'taurah (dubi 3:50, 5:46).

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ

الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾

[28:44] Ba ka kasance ba a gangaren yamman tsauni, a lokacin da Muka hukunta al'amra zuwa ga Musa, kuma ba ka kasance daga shaidu ba.

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا
فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا

مُرْسَلِينَ ﴿٤٥﴾

[28:45] Amma Mun qarfafa halittawar wasu qarnoni, saboda tsawon lokatan rayuwa, (sai suka karkata). Kuma ba ka kasance cikin mutane mazaunan Midyana ba, kana karanta musu ayoyinMu. Amma dai Mun aike masu da manzanni,

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحِمَةً مِّن رَّبِّكَ
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

[28:46] Kuma ba ka kasance a gangaren tsaunin Turi ba a lokacin da Muka yi kira (Musa). Amma rahamah ce daga Ubangijinka, (ga mutane,) domin ka yi gargadi ga mutane wadanda wani mai gargadi bai je masu ba, a gabaninka, la'alla su tuna.

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا
لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

[28:47] Don haka, ba za su iya cewa ba, idan wata masifa ta same su a kan munanan ayyukansu, "Ubangijinmu, da Ka aiko mana da wani manzo, da mun bi ayoyinka, kuma da mun kasance daga mumina.".

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ
مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ
تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾

[28:48] To, a yanzu da gaskiya ta zo masu daga wurinMu, suka ce, "Idan da za ba mu kamar abin da aka bai wa Musa!" Shin, ba su kafirta ba da abin da aka bai wa Musa a gabani? Suka ce, "(Litattafan) biyu sihiri ne wanda suke kwaikawyan juna." Kuma suka ce, "Mu masu kafirta ne ga dukansu biyu?"

قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

[28:49] Ka ce, "To ku zo da wani littafi daga wurin **ALLAH**, wanda su ne mafi shiryarwa daga guda biyun, in bi su, idan kun kasance masu gaskiya."

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

*Allah Yana Aikawa Da SanarwarSa Zuwa Gare Mu
Ta Hanyar ManzanninSa*

[28:50] To, idan sun gaza su karba maka, to, sai ka sani suna bin son zuciyarsu ne kawai. Kuma wane ne mafi bata da wanda ya bi son zuciyarsa, ba tare da wata shiriya daga **ALLAH** ba? Lalle ne, **ALLAH** ba ya shiryar da azzaluman mutane.

﴿٥١﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Dukan Muminan Qwarai Suna Imani Da Alqur'ani

[28:51] Mun sadar da saqo zuwa gare su, la'alla su yi tunani.

الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ۗ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

[28:52] Wadanda Muka ba su littafi daga gabaninsa (Alqur'ani), za su yi imani da shi.

وَإِذْ أَيْنَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ۗ ءَامَنَّا بِهِ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ۗ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ ۗ

مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

[28:53] Kuma idan aka karanta masu shi , za su ce, "Mun yi imani da shi, lalle shi ne gaskiya daga Ubangijinmu. Tun kafin mu ji game da shi, mun kasance muslimai."

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾

*Kirista Da Yahudi Da Suka Gane Gaskiya
Ana Nunka Masu Lada Sau Biyu*

[28:54] Wadannan ana ba su ladarsu sau biyu, saboda haqurin da suka yi. Kuma suna rama mugunta da kyautatawa, kuma daga abin da Muka azurta suna ciyarwa.

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

[28:55] Kuma idan sun gamu da maganar banza sukan kau da kai daga barinta, kuma sukan ce, "Mu ne ke da alhakin ayyukanmu, kuma ayyukanku suna a gare ku. Salam Alaykum. Ba mu son mu yi halin jahilai."

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

Allah Kadai Yake Shiriyarwa

[28:56] Ba za ka iya ka shiriyar da wanda ka so ba. **ALLAH** ne Yake shiriyar da wanda Yake so, kuma daidai da ilminSa ga wadanda suka cancanci shiryuwa.

وَقَالُوا إِن نَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُخَطِّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ

حَرَمًا ءَامِنًا يُجِبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

[28:57] Kuma sun ce, "Idan muka bi shiriya tare da kai, za gallaza mana." Shin, ba Mu tabbatar masu da mallakar Hurumi ba, ya zama amintacce, wanda ake jawowa zuwa gare shi, 'ya'yan itacen kowane iri, bisa ga azurtawa daga gare Mu? Lalle ne, akasarinsu ba su sani ba.

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرِيْبٍ بِطَرْتِ مَعِيْشَتَهَا فَنِيْلِكَ مَسْكِنُهُمْ

لَمْ تُسْكِن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ ﴿٥٨﴾

[28:58] Kuma da yawa Muka halakar da wata alqarya wadda ta yi butulci ga rayuwarta. To, wadannan gidajensu ne, babu kome ciki sai kango, a bayansu, in ban da kaƙan. Kuma Mu ne muka kasance Magada.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
 ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا
 ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

[28:59] Saboda Ubangijinka bai kasance Mai halaka alqaryu ba, ba tare da Ya aika da wani manzo a cikinsu ba, domin ya karanta ayoyinMu a gare su. Kuma ba Mu halaka da alqarya sai mutanensu sun kasance masu zalunci.

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُوكُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
 وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

[28:60] Kuma duk kome da aka ba ku, abin jin dadin rayuwar duniya ne kawai, da qawarta. Abin da ke wurin **ALLAH**, shi ne mafi alheri, knma mafi wanzuwa. Shin, ba ku fahimta?

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَّوَعْنَاهُ مَتَّعُوكُمُ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

[28:61] Shin, wanda Muka yi wa wa'adi, wa'adi mai kyau, wanda lalle ne zai tabbata, daidai ne da wanda muka jiwari da shi dan rayuwar duniya, sa'an nan ya sha wahalar dauwama a Ranar Alqiyamah?

﴿٦٢﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

Abubuwan Shirka Za Su Shika Masu Shirki

[28:62] Akwai ranar da (Mai Rahamah) zai kira su, Ya ce, "Ina abokan tarayyaTa, wadanda kuka kasance kuna riyawa?"

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا كَمَا غَوَيْنَا
تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

[28:63] Wadanda hukunci ta wajabta a kansu za su ce, "Ubangijinmu, Wadannan su ne muka batar; mun batar da su ne kawai saboda muma mun kasance batattu ne. Yanzu mun sadaukar da kawunanmu zuwa gare Ka. Ba su kasance masu bautanmu ba qwarai."

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ
كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

[28:64] Za ce, "Ku kirawo abokan tarayyarku (su taimaka maka maku)." Za su kira su, amma ba za su amsa ba. Za sha gwalegwalen azaba, kuma su yi fatan da dai sun kasance su shiryayyu ne!

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

Yadda Muka Karbi Manzanni

[28:65] Kuma ranar nan, zai tambayi kowa, Ya ce: "Yaya kuka karbi mananni?"

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾

[28:66] Za su some babu makin magana a ranar.

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ

الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

[28:67] To, amma wanda suka tuba, kuma suka yi imani' suka aikata ayyuka na qwarai, to, akwai fatan su kasance daga masu cin nasara.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ لَسَبْحَانَ

اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

[28:68] Ubangijinka Shi ne Yake halittan duk abin da Yake so, sa'annan Yake zabi. Babu wanda yake zabi. Tsarki ya tabbata ga **ALLAH**, kuma Shi ne Mafi daukaka. Yana nesa daga abin da suke yin shirka.

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

[28:69] Ubangijinka Ya san abin da ke sadarin zukatansu, a boye cikin qirjinsu, da duk abin da suke bayyanawa.

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

[28:70] Shi ne **ALLAH**; babu abin bautawa sai Shi. Kuma Shi ne abin godiya a cikin rayuwa ta farko, da ta qarshe, Lahira. Kuma Shi ne da hukunci, kuma zuwa gare Shi ake mayar da ku.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

Baiwn Allah

[28:71] Ka ce, "Shin, me zai faru idan **ALLAH** Ya sanya dare tutur, akai akai, har zuwa Ranar Alqiyamah, wane abin bautawa wanin **ALLAH** zai baku haske? Shin, ba ku ji?"

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

[28:72] Ka ce, "Shin, me zai faru, idan **ALLAH** Ya sanya yini tutur, akai akai, har zuwa Ranar Alqiyamah, wane abin bautawa, wanin **ALLAH**, zai baku dare domin ku huta? Shin, ba ku gani ne?"

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

[28:73] "Rahamah ne daga gare Shi cewa Ya sanya maku dare da yini domin ku huta (cikin dare), sa'annan ku nemi daga falalarSa (cikin yini), la'alla za ku gode."

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾

Abokan Tarayya Basu Da Iko

[28:74] Kumar akwai ranar da zai tambaye su, ya ce: "Ina abokan tarayya wanda kuka qaga domin su daidaita da Ni?"

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ

الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

[28:75] Za mu zaba, daga kowane al'ummah, wani shaida sa'annan mu ce, "Ku kawo hujjojinku." Sa'alin nan ne za su san cewa lalle gaskiya ga **ALLAH** take, alhali kuwa abin bautan da suka qirqiro za su shika su.

﴿٧٦﴾ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ

مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

Qaruna

[28:76] Lalle Qaruna (mai kamun bayi) ya kasance daga mutanen Musa, wanda ya ci amanarsu sa'annan ya fitinesu. Muka ba shi dunbin dukiya har nauyin mabudan sun kusan su fi qarfin mafi qarfin qungiyar mutane.

Mutanensa suka ce masa, "Kada ka yi annashuwa; **ALLAH** ba Ya son masu annashuwa."

وَأَبْتِغِ فِي مَاءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

[28:77] "Ka yi amfani da abin da **ALLAH** ba ka, ka nemi gidan Lahira da shi, ba tare da ya rage maka kome ba a nan duniya. Kuma ka kyautata, kamar yadda **ALLAH** Ya kyautata maka. Kada ka dunga yin barna a cikin qasa. **ALLAH**, ba Ya son masu barna."

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ
مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ
ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

[28:78] Ya ce, "Na kai ga dukan wannan saboda wayo na ne." Shin, bai sani ba cewa **ALLAH** Ya halakar a gabaninsa, daga qarnoni, mafi tsananin qarfi da shi, kuma mafi yawan tarawar dukiya? kuma ba tambayi masu laifi (wanda aka halaka) daga zunubansu ba.

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

[28:79] Sai wata rana ya fita a kan mutanensa a cikin adonsa. Wadanda suka fi son rayuwar duniya suka ce, "Ina dai a ce mana da kwatancin abin da aka bai wa Qaruna. Lalle shi babban mai arziki ne."

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

Arziki Na Ainihi

[28:80] Amma wadanda aka bai wa ilmi, suka ce, "Kaitonku, sakamakon **ALLAH** ne mafi alheri ga wadanda suka yi imani, kuma suka aikata aikin qwarai." Kuma babu wanda ke kaiwa ga ita sai masu haquri."

فَخَسَفْنَا بِهِ، وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ، مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

Qarshen Azzalumi

[28:81] Sai Muka sa qasa ta hadeye shi, shi da gidan qasaitansa. Babu rundunan da suka kasance su taimaka masa baicin **ALLAH**; bai kasance cikin masu cin nasara ba.

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَوْا مَكَانَهُ، بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآتُ اللَّهُ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
لَخَسَفَ بِنَا، وَيَكَآتُهُ، لَا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

[28:82] Wadanda suka yi burin matsayinsa a jiya suka wayi gari suna cewa, "Yanzu mun san cewa **ALLAH** ne mai ba da arziki, ga wanda Yake so daga

bayinSa, kuma Shi yake quntatawa. Ba domin **ALLAH** Ya yi mana falala ba da Ya sa qasa ta hadeye mu muma. Yanzu mun san cewa kafirai ba su cin nasara."

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا
وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣

Masu Cin Nasara

[28:83] Mun kebe zaman gidan Lahira ga wadanda ba su neman daukaka a rayuwar duniya, kuma ba su son barna. Kuma aqiba ga masu taqawa take.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٨٤

[28:84] Wanda ya zo da aiki mai kyau, to, yana da mafi alherin lada. Amma wadanda suka yi mugun aiki, to, sakamakon mugun aikinsu daidai ne da ayyukansu.

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ
جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٨٥

[28:85] Lalle ne wanda Ya faralta maka Alqur'ani, zai mayar da kai zuwa ga makoma. Ka ce, "Ubangijina ne Mafi sani ga wanda ya zo da shiriya, da kuma wanda yake a cikin bata bayyananna."

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

[28:86] Kuma ba ka yi tsammanin wannan littafi ya zo gare ka ba; amma wannan domin rahamah ne daga Ubangijinka. Saboda haka, kada ka zama mai taimako ga kafirai.

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

[28:87] Kuma kada su karkatar da kai daga barin ayoyin **ALLAH**, a bayan an saukar da su zuwa gare ka, kuma ka yi kira zuwa ga Ubangijinka, kuma kada ka kasance daga masu shirka.

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ لَدَىٰ الْحُكْمِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

[28:88] Kada ka kira wani abin bautawa na dabam tare da **ALLAH**. Babu abin bautawa sai Shi. Kowane abu mai halaka ne sai bayyanarSa. Shi ne da hukunci, kuma zuwa gare Shi za mayar da ku.